

(۱۶)

۴۔ اپریل ۱۹۲۷ء کو باغ حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ قادیان میں حضرت خلیفۃ المسیح
 الثانی نے عید کی نماز پڑھائی۔ (الفضل ۸۔ اپریل ۱۹۲۷ء)
 افسوس ہے کہ یہ خطبہ الفضل میں شائع نہیں ہوا۔